

COVID-19 کے دوران نگہداشت کا حصول

URDU

کیا آپ محض پریشان ہیں؟

کیا آپ نے سفر کیا؟

کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی COVID-19 مریض کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں مگر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں؟

گھر پر رہیں

سنجیدہ علامات کے بغیر ہسپتال جا کر طبی عملے کا کام حد سے زیادہ نہ بڑھائیں

بخار، کھانسی، سر درد، بہتی ناک، بو یا ذائقہ محسوس نہ ہونا، گلے میں درد، ہیضہ؟

نگہداشت وصول کریں

ٹیلی ہیلتھ استعمال کریں یا اپنے بنیادی طبیب کو کال کریں

سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد، تذبذب، یا بخار جو دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا؟

مشورے کے لئے کال کریں

911 پر کال کریں یا ہنگامی ڈپارٹمنٹ میں جائیں